



آزادی جدید دنیا میں زیادہ دولت مند، زیادہ خوش، منصفانہ: اسکاٹ لینڈ کیوں نہیں؟

خلاصہ

مئی 2021 میں، اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے آزادی کے ریفرنڈم کے حق میں اسکاٹس پارلیمنٹ (MSPs) کے اراکین کی اکثریت کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ کیا۔

اسکاٹس حکومت کا خیال ہے کہ ریفرنڈم میں کئے جانے والے انتخاب کے بارے میں لوگوں کو مطلع ہونا چاہئے۔

اسکاٹ لینڈ کے مستقبل پر ہونے والی بحث سے مطلع کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے اس سلسلے کا یہ پہلا پیپر ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک خاکہ بنائیں گے کہ ایک آزاد اسکاٹ لینڈ کیسے کام کر سکتا ہے۔

یہ پہلا پیپر یورپ کے دیگر ممالک کی بہ نسبت مختلف پیمائشوں میں UK کی کارکردگی پر نظر ڈالتا ہے۔

یہ تجزیہ ایسے اعداد و شمار اور تحقیق پر مبنی ہے جسے متعدد نامور تنظیموں جیسے کہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ (OECD) اور آفس فار نیشنل اسٹیٹسٹکس (ONS) کے ذریعے شائع کیا گیا ہے۔

ہم اس ڈیٹا کا استعمال UK کی کارکردگی کا کئی یورپی ممالک کی کارکردگی سے موازنہ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں 'مسابقتی ممالک' کہہ سکتے ہیں۔ یہ ممالک آسٹریا، بیلجیم، ڈنمارک، آئسلینڈ، آئرلینڈ، فنلینڈ، نیدرلینڈز، ناروے، سویڈن، اور سوئٹزرلینڈ ہیں۔

اس ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ:

- یہ تمام مسابقتی ممالک UK کے مقابلہ میں مالدار ہیں - کچھ تو بہت ہی مالدار ہیں۔
- ان تمام مسابقتی ممالک میں آمدنی کا فرق کم ہے۔
- ان تمام مسابقتی ممالک میں غربت کی شرح کم ہے۔
- ان تمام مسابقتی ممالک میں بہت تھوڑے بچے غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔
- زیادہ تر مسابقتی ممالک UK کے مقابلہ زیادہ خوشحال ہیں۔
- ان تمام مسابقتی ممالک میں سماجی حرکت پذیری زیادہ ہے۔
- ان مسابقتی ممالک میں زیادہ تر صنفی تنخواہ کا فرق کم ہے۔



- ان تمام مسابقتی ممالک کی پیداواری صلاحیت UK کے مقابلے میں زیادہ ہے – عام طور پر نمایاں طور پر زیادہ۔
- ان تمام مسابقتی ممالک میں تجارتی سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے۔

مختصراً، یہ آزاد ممالک زیادہ مالدار، خوشحال اور زیادہ انصاف پسند ہیں۔

شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ سے بہتر نتائج حاصل کر رہے ہیں جو کہ اس وقت UK کے حصے کے طور پر حاصل کر رہا ہے۔

یقیناً، ایک آزاد اسکاٹ لینڈ کو ان مماثل یورپی ممالک کی کامیابی سے راتوں رات ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔

ایک آزاد اسکاٹ لینڈ کی کامیابی کا انحصار اس کے فیصلوں کے معیار اور یہاں رہنے والوں کی صلاحیتوں پر ہوگا۔

لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ آزادی کا مکمل اختیار ایک ملک کی تعمیر کے لئے ضروری ہے جو مسابقتی اقوام میں حاصل شدہ سماجی اور اقتصادی نتائج سے ہم آہنگ ہو۔

اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے تمام اختیارات کی موجودگی میں کیسے ترقی حاصل کی جاسکتی ہے اس کے تعلق سے مختلف آراء ہوں گی، لیکن وہ دستیاب اختیارات کی مثالوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔

اسکاٹ لینڈ کے پاس بہت سارے اثاثے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتر کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان میں قدرتی توانائی کا اضافی ذخیرہ، کھانے پینے کا زبردست شعبہ، عالمی معیار کی یونیورسٹیاں، جدید مینوفیکچرنگ، بہترین قدرتی ورثہ، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے عالمی سطح پر پیش رفت شامل ہیں۔

آخر میں، اسکاٹ لینڈ دیگر اقوام کے تجربات سے سیکھنے اور اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی نتائج کو نمایاں طور پر بہتر بنانے کے لیے آزادی کے ذریعے حاصل ہونے والے اختیارات کو استعمال کرنے کی اچھی پوزیشن میں ہے۔

اگر اس طرح کے ممالک کامیاب ہوسکتے ہیں، تو ایک آزاد اسکاٹ لینڈ - ہمارے پاس ہنر، وسائل اور قدرتی فوائد موجود ہیں - کیوں کر کامیاب نہیں ہو سکتا؟

©The Scottish Government 2022

اسکاٹش حکومت کی طرف سے شائع کیا گیا، جون 2022

APS Group Scotland, 21 Tennant Street, Edinburgh

EH6 5NA

PPDAS1095222 (06/22) کی طرف سے اسکاٹش حکومت کے لیے پیش کیا گیا